

# Mbilalusunzi ndi dza vhukuma?

Tsho īwalwa nga Lesley Beake

Zwifanyiso nga Natalie na Tamsin Hinrichsen



Tshikolo tsho bva. Ndi tshifhinga tsha u ya hayani.

Samuel na Maryanne vha khou tshimbila vhoṭhe.

“Mbilalusunzi ndi dza vhukuma?” Samuel u vhudzisa

Maryanne.

“Ee.”

“Ndi vhusunzi?”

“Hai.”

“Ndi zwivhingwi?”

“Hai.”

Vhana vha khou tshimbila vhoṭhe.

“Mbilalusunzi ndi khulwane?”

“Ee.”

“Dzi na maanda?”

“Ee.”

Vhana vha khou tshimbila vhoṭhe.

“Dzi ḫo ri ḫa?”

“Hai.”

“Dzi ḫa mini?”

“Vhusunzi.”



Vhana vha khou tshimbila vhoṭhe.

“Mbilalusunzi dzi dzula mirini?”

“Hai.”

“Mbilalusunzi dzi a fhufha sa zwiṇoni?”

“Hai.”

Vhana vha khou tshimbila vhoṭhe.

“Mbilalusunzi dzi dzula na vhathu?”

“Hai.”

“Mbilalusunzi dzi a takalela mutoli?”

“Hai.”

Maryanne a ima. Samuel a ima, fhedzi hu si nga u t̄avhanya. A ya kha Maryanne. A vhonala o sinyuwa.

“Mbilalusunzi dzi ...”

Maryanne a imisa tshanda tshawe.

“LITSHANI U MMBUDZISA MBUDZISO!”

“Fhedzi ...”

“LITSHANI!”

Maryanne u sumbedza Samuel tshifhaṭo tshituku.

Hu na luswayo kha tshifhaṭo.

LAIBURARI.

Samuel a lavhelesa Maryanne.

“Vha a ḫivha nga mbilalusunzi fhaṭa?”

“Ee.”

Samuel a lavhelesa laiburari.

“Ndi nga dzhena?”

“Ee.”

Samuel a dzhena. Laiburari yo ḫala bugu. Hu na bugu dza mađanađana. Khamusi hu na zwigidigidi zwa bugu.

Zwino Samuel u ḫo wana hani bugu ya mbilalusunzi?

“Ee?” hu amba munna wa u luga.

“Vha na bugu nga ha mbilalusunzi?”


Muļaiburari a mwemwela.

“Ee.”



Munna wa u luga a ḫisa bugu. Samuel a dzula kha ṭafula uri a i sedze.

- Mbilalusunzi ndi khulwane – khulwane u fhira mmbwa nnzhi.
- Mbilalusunzi dzi ḫa vhusunzi na zwiñwe zwikhokhonono.
- Mbilalusunzi dzi ita mahaya adzo fhasi ha mavu.
- Mbilalusunzi dzi konesa u gwa.
- Mbilalusunzi dzi dzula mavhaleni a Afrika.
- Mbilalusunzi a dzi na mano.
- Mbilalusunzi dzi vhidza hafhu nga ḫa aardvarks (zwine zwa amba nguluvhe dza ḫifhasi).
- Mbilalusunzi dzi bva vhusiku fhedzi.



Samuel u khou humbula. Munna wa u luga a ita khophi ya tshifanyiso tsha mbilalusunzi. A i ɳea Samuel. Samuel u kha di elekanya.

“Mbilalusunzi dzi bva vhusiku fhedzi,” hu a amba Samuel.

“Ee.”

“Zwenezwo ri diwha hani nga hadzo?”

Munna wa u luga a mwemwela.

“Vhałodisisi vha dzi lavhelela nga vhuronwane. Vhathu vha vhea kamera uri dzi dzhie zwifanyiso zwadzo vhusiku. Vhathu vha nwala bugu dzine dza ri vhudza nga hadzo.”

Samuel a humbula ngazwo. “Fhedzi vhana vha diwha hani nga mbilalusunzi?”

“Vha vhudzisa mbudziso!”

Samuel na Maryanne vha khou tshimbila u ya hayani. Samuel o fhumulesa. U khou humbula nga mbilalusunzi. U khou humbula nga zwithu zwothe zwine a diwha nga hadzo. U khou tama a tshi nga vhona mbilalusunzi.



“Maryanne?” u a amba.

“Ee?”

“Ri nga dzedza u swika vhusiku na u ḥoda mbilalusunzi? Ri nga dzhia thotshi ra yo vhona arali hu na mbilalusunzi fhano? Ri nga ḥodisia arali hu na milindi ya mbilalusunzi hune dza dzula hone? Ri nga kona? Ri nga kona?”

“Hai.”

# Mbilalusunzi ndi dza vhukuma?

Tsho ካውልዋ nga Lesley Beake • Zwifanyiso nga Natalie na Tamsin Hinrichsen

# Zwine ha nga ambiwa nga hazwo

Samuel o vha a tshi khou Ქጀ bugu i no amba nga ha mbilalusunzi. Ni takalela u vhala bugu dza lushaka lufhio?

Samuel o shumisa iñwe ndila ifhio kha u wana mafhungo nga hambilalusunzi? Ni anzela u wana hani mafhungo?



# Tshifanyiso

Samuel o vha a tshi ḥodesa u ḥivha nga ha mbilalusunzi. Tshipuka tsha ḥaka tshire na tshi funesa ndi tshifhio? Olani tshifanyiso tshatsho. Nwalani dzina ḥa tshipuka itshi nga fhasi ha tshifanyiso kana ni humbele muṅwe muthu a ni thusenzi.



U Vhala

Ni nga shumisa mafhuno a no bva tshiṭorini itshi kha u ነwala  
mutevhe wa “ndi zwone” na “a si zwone” u no kwama mbilalusunzi?




U Nwala

Samuel u vhudzisa mbudziso nnzhi nga ha mbilalusunzi ngauri o vha a tshi todesa u divha nga hadzo. Nwalani mutesvhe wa mbudziso dza malo u swika kha dza fumi dzine na takalela u wana phindulo dzadzo.



Vhutsila

Shumisani vumba-vumba kana vumba la u tambisa ni ite mbilalusunzi.



Kushumele

Itani jitambwa ja mufhindulano vhukati ha Samuel na Maryanne uri khatshipida tsha tsitoritsha musi vha sa athu swika laiburari.

